

سُورَةُ الْبُجَادَةِ

آيات : 19 - 22

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ^ط أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ^ط
الآن حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ^ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ^ط أُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ^ط وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ^ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ^ط
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ^ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ^ع

مطالعہ حدیث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

صحیح مسلم « کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حدیث نمبر 2564

- بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو۔

پہلا پیرا گراف

آیت 1-4

• عائلی قوانین میں
حدود اللہ کی پاسداری
• اسلام کے بعد جاہلیت کے
طور طریقے کا عدم

تیسرا پیرا گراف

آیت 14-22

حزب اللہ کی کامیابی
اور حزب الشیطان
کی ناکامی کی بشارت

آیت 5-13

اسلامی ریاست کے مخالف
منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس
مسلمانوں کو مجلسی آداب کی تعلیم

دوسرا پیرا گراف

اِسْتَحُوْذٌ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

اِسْتَحُوْذٌ - غلبہ پالیا ہے

□ مادہ: ح و ذ - حوذ: تیز رفتاری، پھرتی، سرعت

□ حَاذٌ: سختی کے ساتھ ہانکنا

□ اِسْتَحُوْذٌ: کسی پر مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا۔ سختی سے قابو پانا

عَلَيْهِمْ - ان پر

الشَّيْطٰنُ - شیطان نے

فَاَنْسَهُمْ - پس بھلا دیا ان کو

فَأَنسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ

□ نَسِيَ : بھول جانا

(iv) □ اُنْسِيَ : بھلانا (کسی دوسرے کو بھلانا)

□ اردو میں : نسیان ، طاقِ نسیان

ذِكْرَ اللَّهِ - اللہ کا ذکر

أُولَٰئِكَ - یہ لوگ

حِزْبُ الشَّيْطَانِ - شیطان کا گروہ

□ حِزْبُ - پارٹی، گروہ، جتھا - سیاسی پارٹی، فوج اور لشکر کے معنوں میں بھی

الآن حزب الشيطان هم الخسرون

آآ - آگاہ رہو

ان - بے شک

حزب الشيطان - شیطان کی پارٹی

هم الخسرون - وہ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں

اِسْتَحُوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسَهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۗ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

شیطان اُن پر مسلط ہو چکا ہے اور اُس نے خدا کی یاد اُن کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔

آیت 19 کے مباحث

○ جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے

□ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے

□ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے

□ پھر شیطان کا آلہء کار بن کر اس کی پارٹی (حزب الشیطان) میں

کار نامے سرانجام دیتا ہے

□ عاقبت کا دائمی خسارہ اسکا حصہ بن جاتا ہے

○ اللہ کی یاد انسان کی محافظ

۲۰ ۴۱ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذِيْنَ

اِنَّ الَّذِيْنَ - بیشک جو لوگ

يُحَادُّوْنَ - مخالفت کرتے ہیں

□ ماده: ح د د

□ حد: دو چیزوں کے درمیان ایسی روک جو ان کو باہم ملنے نہ دے۔
اڑ، کنارہ

□ حَادٌّ: مخالفت کرنا، دشمنی رکھنا

□ حد سے تجاوز کرنے کے اعتبار سے جو کسی کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرے گا وہ اس کا دشمن ہوگا

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ - اللہ اور اس کے رسول کی

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

أُولَئِكَ - وہ لوگ

فِي الْأَذَلِّينَ - ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں

□ یہ **أَذَلُّ** کی جمع ہے **افعل التفضيل** کا صیغہ

□ **ماده: ذ ل ل** - زیر دست ہونا، کمزور ہونا، ذلیل ہونا

□ **أَذَلُّ**: ذلیل کرنا جس میں مغلوب ہونے کا پہلو نمایاں ہو

□ **إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولَ**: کام میں جتا ہوا بیل (یا گائے) جو کمزوری

کی بنا پر غلام بن گیا ہو اور خدمت پر مجبور ہو

□ **اردو میں**: ذلت، تذلیل، ذلالت، مذلت، تذلل

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي
الْأَذْيَانِ ﴿٢٠﴾

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔
یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں

آیت 20 کے مباحث

• اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے محاذ آرائی کرنے والوں کا انجام

□ شکست اور ذلت ان کا مقدر

□ پوری انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے

□ اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے محاذ آرائی کرنے والے

مسلمان اور مسلمان حکمرانوں کو درسِ عبرت

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

كَتَبَ اللَّهُ - اللہ نے لکھ دیا ہے

□ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

□ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

□ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

لام تاکید اور نون مشدہ یا نون ثقیدہ
عربی میں سب سے زیادہ تاکید کا صیغہ

لَأَغْلِبَنَّ - میں ضرور غالب رہوں گا

□ ماده: غ ل ب

□ غَلَبَ: غالب آنا (قوت اور زور کا مفہوم)

□ اردو میں: غالب، مغلوب، غلبہ، غالباً، اغلب (جسکا غالب گمان ہو)

کَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

أَنَا - میں

وَ رُسُلِي - اور میرے رسول

إِنَّ اللَّهَ بيشک اللہ تعالیٰ

قَوِيٌّ - قوت والا (زور آور)

□ صفت (مشبہ)

عَزِيزٌ - زبردست ہے عَزَّ: قوت رکھنا۔ غلبہ پانا۔ شدت ہونا

□ وہ ہستی جسکا اختیار مطلق ہو اور اُسکی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو

رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت

○ اگر قوم بحیثیت مجموعی رسول کی بات نہ مانے تو

○ اگر قوم بحیثیت مجموعی رسول کی بات مان کر ایمان لے آئے
تو.....

○ دونوں صورتوں میں نتیجہ.....

○ آیت کے آخر میں..... **إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ**

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو
کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

لا - نہیں

تَجِدُ - پاؤ گے تم

□ وَجَدَ يَجِدُ - to find - پانا - کسی چیز کو موجود دیکھنا

□ اردو میں: وجد، وجدان، وجود، موجود، واجد، موجودات

قَوْمًا - ان لوگوں کو

يُؤْمِنُونَ - جو ایمان رکھتے ہیں

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - اللہ پر اور روزِ آخرت پر

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُوَادُّونَ - وہ محبت رکھتے ہیں

□ مادہ: و د د **وَدَّ يُوَدُّ**: چاہنا، محبت کرنا، دوستی کرنا

□ **الْوُدُودُ** - بہت محبت رکھنے والا

□ **مَوَدَّةٌ**: - محبت، تعلق، دوستی

□ - لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

□ اردو میں: مودت، ودود

مَنْ - جو - (جنہوں نے)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حَادٌّ - مخالفت کی

□ مادہ: ح د د

□ حَدٌّ

□ حَدٌّ: مخالفت کرنا، دشمنی رکھنا

□ حد سے تجاوز کرنے کے اعتبار سے جو کسی کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کریگا وہ اسکا دشمن ہوگا

اللَّهُ وَرَسُولَهُ - اللہ اور اس کے رسول کی

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے
والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے
اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے

وَلَوْ كَانُوا اِبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط

لَوْ: حرف شرط

وَلَوْ - اگرچہ

كَانُوا - وہ ہوں

اِبَاءَهُمْ - ان کے باپ

اَوْ - یا

اَبْنَاءَهُمْ - ان کے بیٹے

اَوْ اِخْوَانَهُمْ - یا ان کے بھائی

اَوْ عَشِيرَتَهُمْ - یا ان کے اہل خاندان

وَلَوْ كَانُوا اِبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط

اَوْ عَشِيرَتَهُمْ

□ ماده: ع ش ر (عشر): دس عشرون: بیس

□ العِشَار: 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی

□ مَعْشَر: گروہ، جماعت (10 آدمیوں کے تصور سے)

□ معاشرہ - معاشرت: مل جل کر رہنا

□ العَشِيرَةُ: قریبی رشتہ داروں کی جماعت - قریبی رشتہ دار

□ اردو میں: عَشْر، عشرة، اعشاری نظام، عاشورہ، عشرت، معاشرہ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے
ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس
کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، یا ان کے
بیٹے، یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ط

أُولَئِكَ - یہ وہ لوگ ہیں

كَتَبَ - لکھ دیا ہے (اللہ نے)

فِي قُلُوبِهِمْ - اُنکے دلوں میں

الْإِيمَانَ - ایمان

وَأَيَّدَهُمْ - اور مدد کی

بِرُوحٍ - روح سے

مِّنْهُ - اس کی

□ مادہ: ا ی د

□ اید : سخت قوت

□ أَيَّدَ : قوت دینا، مدد دینا

□ اردو میں : تائید، موید

ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط

وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ داخل کرے گا انہیں

جَنَّاتٍ - باغوں میں

تَجْرِي - جاری ہیں

مِنْ تَحْتِهَا - ان کے نیچے

الْأَنْهَارُ - نہریں

خَالِدِينَ - ہمیشہ رہیں گے وہ

فِيهَا - ان میں

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَ
يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ

جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی
روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے
نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ رہیں

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ

رَضِيَ اللهُ - راضی ہو اللہ

عَنْهُمْ - ان سے

وَرَضُوا - اور وہ راضی ہوئے

عَنْهُ - اُس سے

أُولَٰئِكَ - یہی لوگ ہیں

حِزْبُ اللهِ - اللہ کی جماعت

آلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

آلَا - جان رکھو

إِنَّ - بلاشبہ

حِزْبَ اللَّهِ - اللہ کی جماعت

هُمُ - وہ ہی

الْمُفْلِحُونَ - فلاح پانے والی ہے

□ مادہ : ف ل ح

□ فَلَاحٌ : پھاڑنا، شگاف ڈالنا، ہل چلانا (کھیتی باڑی)

آلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

• فلاح:

• ہل چلانے والا (کاشتکار)

• مُفْلِحُونَ:

• وہ کاشتکار جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں اور محنت بار آور ہو جائے

• فلاح:

• کامیابی - مُفْلِحُونَ کامیاب و کامران لوگ

• اردو میں:

• فلاح (بہبود)، فلاحی، فلاحت (کاشتکاری)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ^ط أُولَئِكَ حِزْبُ
اللهِ ^ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْبَاقِلُونَ ^ع (۲۲)

راضی ہو اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے یہی ہیں
اللہ کی جماعت۔ جان رکھو بلاشبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح
پانے والی ہے

حزب اللہ اور حزب الشیطان

• دو مرتبہ حزب اللہ کا ذکر

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

56/5

• اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو (وہی اللہ کی جماعت ہے اور) اللہ کی جماعت (کے لوگ) ہی غالب ہونے والے ہیں

• دونوں جگہوں پر حُب فِي اللَّهِ اور بغض فِي اللَّهِ

• حزب اللہ کے ساتھ وابستہ چیزیں: ۱- دنیا میں غلبہ ۲- آخرت میں فلاح

• حزب الشیطان کے ساتھ وابستہ چیزیں: اسکی شکست، نقصان اور مقصد میں ناکامی

حُب فِي اللَّهِ اور بغض فِي اللَّهِ

• أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ عَمِلْتَ لِي عَمَلًا قَطُّ ؟

• قَالَ : إِلَهِي صَلَّيْتُ لَكَ ، وَ صُمْتُ ، وَ تَصَدَّقْتُ ، وَ ذَكَرْتُ لَكَ . فَقَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ لَكَ بُرْهَانٌ ، وَ الصَّوْمَ جُنَّةٌ ، وَ الصَّدَقَةَ ظِلٌّ ، وَ الذِّكْرَ نَوْرٌ ، فَأَيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي ؟

• فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ هُوَ لَكَ ؟ فَقَالَ : يَا مُوسَى ، هَلْ وَالَيْتَ لِي وَوَلِيًّا ، وَ هَلْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًّا قَطُّ ؟ ! فَعَلِمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ

حُب فِي اللَّهِ اور بغض فِي اللَّهِ

• حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور پوچھا کہ کیا کوئی عمل میرے لیے بھی انجام دیا ہے عرض کیا میں نے تیرے لیے نماز پڑھی روزہ رکھا اور انفاق کیا اور تجھے یاد کرتا ہوں۔

• اللہ نے فرمایا نماز تیرے لیے حق کی نشانی تھی روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر تھا، انفاق محشر کے لیے سایہ ہے اور ذکر نور ہے اے موسیٰ میرے لیے تو نے کونسا عمل کیا عرض کیا یا رب تو خود میری رہنمائی فرما: فرمایا ”کیا تو نے کبھی میرے لیے محبت کی اور میرے لیے دشمنی کی“ اس پر موسیٰؑ سمجھ گئے کہ حُب فِي اللَّهِ اور

بغض فِي اللَّهِ افضل ترین عمل ہے

حُب فِي اللَّهِ أَوْر بَعْض فِي اللَّهِ

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ؟
الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

• قِيَامَتِ كِي رُوزِ اللَّهِ تَعَالَى فَرَمَائِي " گَا " مِيرِي جَلَالِ كِي خَاطِرِ مَحَبَّتِ كَرْنِي
وَالِي كِهَائِي هِي كِي مِي آجِ أَنَهِي اِي سَائِي مِي جِگِي دُورِ گَا كِي جِي
مِيرِي سَائِي كِي عِلَاوِي كُوِي سَايِي نِي هُو گَا

• ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" : مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ
فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ . " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

حُب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا اجر

• اللہ نے 5 اجر مقرر کر رکھے ہیں

• 3 اسی دنیا میں اور 2 آخرت میں

• پہلی نعمت : ایمان کا ان کے دلوں میں قرار و ثبات

• دوسری نعمت : ایک نئی روح سے ان کو تقویت دیتا ہے

• تیسری نعمت : انہیں اپنے حزب میں شمار کرتا ہے اور دشمنوں کے

مقابلے میں کامیابی عطا کرتا ہے

• چوتھی نعمت : بہشتِ جاوداں میں مقام عطا کرتا ہے

• پانچویں نعمت : ان کے لیے اپنی خوشنودی و رضامندی کا اعلان کرتا ہے

آخری آیت کے مباحث

- دو مختلف راستوں میں سے ایک کا انتخاب - حق اور باطل ، اخلاص اور منافقت
- ایمان والوں کی خصوصیت - عزیز ترین رشتے بھی ایمان اور ایمان والوں کی معیت سے زیادہ عزیز نہیں
- ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی ایمان کی سند
- اور پھر سب سے بڑا اعزاز - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
- اور اللہ نے اپنی پارٹی میں شامل کیا